

SL. No : K

بچپن پڑھنے والے سوالات کا نامہ سانچہ: 42 ]

**CCE RR**

[ بچپن پڑھنے والے سوالات کا نامہ سانچہ: 12 ]

Total No. of Questions : 42 ]

[ Total No. of Printed Pages : 12 ]

سالہ 83-U

Code No. : 83-U

ویڈیو : ویڈیو

**Subject : SCIENCE**

( فیزیک، رسمیات اور بیولوژی ممکنہ جیسے شاخے / Physics, Chemistry & Biology)

( ہندوستانی / Urdu Version )

( نئی سسیکھنے والے / New Syllabus )

( پُرنسپل ریپیٹر / Regular Repeater )

دیناں کا تاریخ : 21. 06. 2017 ]

[ Date : 21. 06. 2017 ]

سਮय : بجے 9-30 صبح میں 12-30 ناچھے ] [ Time : 9-30 A.M. to 12-30 P.M.

گرین 80 ]

[ Max. Marks : 80 ]

TEAR HERE TO OPEN THE QUESTION PAPER  
اس مقام سے کارکروں کی پوچھتائی کے لئے

عامہ ہدایات :

1. سوالنامہ معرفی (Subjective) اور موضوعی (Objective) سوالوں پر مشتمل ہے جس میں 42 سوالات ہیں۔
2. اس سوالنامہ کو سر بھر کر دیا گیا ہے۔ امتحان شروع ہونے کے وقت آپ کو پہلے پڑھنے کے لئے اسے باہمی طرف سے کاٹنا ہوگا۔ اچھی طرح دیکھ لیں کہ سوالنامہ کے سبھی صفحات ٹھیک ٹھاک ہیں۔
3. معرفی اور موضوعی دونوں قسم کے سوالوں کے لئے دی گئی ہدایات کے مطابق جواب لکھیں۔
4. سوالات کے لئے باہمی ہاتھ کی جانب حاشیے میں کامل مارکس دے گئے ہیں۔
5. جواب دینے کا زیادہ وقت سوالنامہ کے اوپر دیا گیا ہے۔ اس میں سوالنامہ پڑھنے کے لئے 15 منٹ شامل ہیں۔

Turn over ]

**RR-XXVI-8039**

مندرجہ ذیل سوالات/ نامکمل بیانات میں سے ہر ایک کے لیے چار تبادل دیے گئے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک صحیح یا مناسب ترین ہے۔ صحیح تبادل پنجیں اور حرف تجھی کے ساتھ مکمل جواب لکھیں۔

$$10 \times 1 = 10$$

1. گراہم کے کلیئے نفوذ پذیری کے مطابق دئے گئے دباؤ اور حرارت پر گیس کی نفوذ پذیری کی شرح

(A) اسکی کثافت کے جذر المربع کے ساتھ راست تناسب رکھتی ہے

(B) اس کی کمیت سے راست تناسب رکھتی ہے

(C) اسکی کثافت کے ساتھ معکوس تناسب رکھتی ہے

(D) اسکی کمیت کے ساتھ معکوس تناسب رکھتی ہے

2. آواز کا منبع مشاہدہ کرنے والے سے دور ہوتا جاتا ہے تو مشاہدہ کرنے والے کو آواز کا تعداد کم محسوس ہوتا ہے کیونکہ


(A) آواز کے منبع کی لمبیں مخفج ہوتے ہیں

(B) آواز کی لمبیں کا طول موج گھٹتا ہے

(C) آواز کے منبع کی موجودیں اس سے دور ہوتی ہیں

(D) مشاہدہ کرنے والا زیادہ موجودیں حاصل کرتا ہے

3. اس شکل میں انسانی زبان میں پائے جانے والے ذائقہ کے مرکز دیئے گئے ہیں۔ نشانہ (1) کس ذائقہ کا مرکز ہوتا ہے۔



(A) میٹھا (B) کڑوا

(C) نمکین (D) کھٹا

4. حیوانی کونکے یا ناریل کے کھپرے (Norit) شکر کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ

(A) گنے کے عرق یا رس میں پائے جانے والے کثافتوں کو تمیشیں کرنے

(B) شکر کی قلماؤ کاری تیز ہوتی ہے

(C) شکر بے رنگ ہوتی ہے

(D) گنے کے عرق یا رس میں پائے جانے والے پروٹین جمٹتے ہیں

5. جب مینڈل خالص دراز قد سرخ پھول اور پست قد سفید پھول کے پودوں کے درمیان پارزیگی کرتا ہے تو حاصل ہونے والی  $F_1$

نسل میں پست قد سفید پھول کے پودوں کی تعداد


9 (B)

0 (A)

1 (D)

3 (C)

6. حسب ذیل گراف میں تبادل برقی رو (AC current) کی نشاندہی کیجئے



7. اگر ایک صحیت مندا انسان کے  $1 \text{ mm}^3$  خون کے خلیات میں پائے جانے والے ذرات کو بڑھتی ہوئی مقدار میں لکھیں تو حاصل ہونے والے

- (A) طباقی - سرخ خلیات - سفید خلیات
- (B) سفید خلیات - سرخ خلیات - طباقی
- (C) سرخ خلیات - طباقی - سفید خلیات
- (D) سفید خلیات - طباقی - سرخ خلیات


.8 ستارہ کے مرحلہ سرخ ہیولہ کی مخصوص فطرت

- (A) ستارہ کے بطن میں ہیڈروجن پائی جاتی ہے
- (B) ستارے کے خول کے پھیلنے کی وجہ سے اسکا قلب سکڑتا ہے
- (C) ستارہ کا درجہ حرارت زیادہ ہو کر اشاعع کا زیادہ تعدد کے ساتھ اخراج ہوتا ہے
- (D) ستارہ پھولنے لگتا ہے۔ اشاعع کا اخراج کم ہوتا ہے اور حرارت میں کمی آتی ہے۔

.9 سفیلیس (Syphilis) بیماری پیدا کرنے والے جراثیم

- (A) نائسر یا گونورے
- (B) واہریوکالیرا
- (C) ٹریپونیما پلائی ڈیم
- (D) سالمونیلائٹ

.10 حسب ذیل سادہ رقص (Simple Pendulum) کی شکل کے تعلق سے موزوں کہاوت کی نشاندہی کیجئے:



- (A) نقطہ B پر رقص (Pendulum) کی توانائی بالقوہ انتہائی ہوتی ہے۔
- (B) نقطہ A پر رقص کی توانائی بالحرکت انتہائی ہوتی ہے
- (C) رقص کی توانائی بالقوہ A اور C نقاط پر انتہائی ہوتی ہے
- (D) رقص کی توانائی بالحرکت نقاط A اور C پر انتہائی ہوتی ہے

11. دھات سازی کے کچھ مرحلے فہرست A میں دیئے گئے ہیں اور انکے معنی فہرست B میں دی گئی ہیں۔ مناسب جوڑ کر لکھئے :  
 $4 \times 1 = 4$

فہرست-B-	فہرست-A-
کچھ دھات کے ساتھ دوسری شے کا شامل کرنا	پتھر کا ارتکاز (A)
(Concentration of the ore)	
کچھ دھات کو نقطہ پھلاو سے نیچے ہوا کی موجودگی میں گرم کرنا	کلسانایا تکلیس (B)
(Calcination)	
کچھ دھات میں کثافتیں پائی جاتی ہیں	گدازندہ (C)
(Flux)	
کچھ دھات کو برق پاشیدگی کرنا	بھوننا (D)
ضروری شے کے اجزاء کو کچھ دھات میں بڑھانا یا مرتکز کرنا	(Roasting)
ہوا کی غیر موجودگی میں کچھ دھات کو اس کے نقطہ پھلاو سے کم تک گرم کرنا	
کچھ دھات کی قلم کاری کرنا	
(vii)	

$7 \times 1 = 7$

حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھئے :

12. صنعتوں سے خارج ہونے والے آلات کو فضائی درجہ حرارت تک ٹھٹھ دے کر کے پانی میں چھوڑنا چاہیئے۔ کیوں ؟

13. میکانیکی موجیں کیا ہیں ؟

14. چارلس کے کلیہ کی تعریف کیجئے ؟

15. ماں بناتا اونچے قد کی نشونما نہیں پاتے۔ کیوں ؟

16.  $p-n-p$  ٹرانزسٹر (Transistor) کی علامت (Symbol) کا خاکہ بنائیے۔

17. اگر 220 ولٹ تبادل برقی روکو 10 ولٹ تک کم کرنے سے ابتدائی اور ثانوی تاروں کے لچھے میں چکروں کی نسبت معلوم کیجئے۔

18. تابا اور سونے کا برقیاتی معادل گرام فی کولمب اور 0.000681 گرام فی کولمب (electrochemical equivalent) 0.0003 میں مساوی برقی روا اور مساوی وقہ کے لئے گزاری جائے تو کس متفہرہ پر زیادہ پرت جمع ہوتی ہے۔ کیوں ؟

$16 \times 2 = 32$  حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھئے :

19. جمنوا پرم کے نر اور مادہ کونس (Cones) کی ساخت سمجھائیے۔

20. چھلیوں کے کوئی چار خصوصیات کی فہرست بنائیے۔

یا

حشرات (Reptiles) کی کوئی چار خصوصیات کی فہرست بنائیے۔

21. 95 فیصد ایتھاکل الکوہل (Ethyl Alcohol) بھورے لیس دار سیال (molasses) تیار کرنے کا طریقہ سمجھائیے۔

22. برقی ملمع کاری میں استعمال ہونے والے آلہ کی شکل بنائیے۔

23. ”زراعت میں جینی ترمیم شدہ پودے آبی آلو دگی کو کم کرتے ہیں۔“ اس جملہ کی وضاحت کیجئے۔

24.  $n$ - قتم اور  $p$ - قتم کے نیم موصل کے درمیان فرق بتائیے۔

یا

داخلی نیم موصل اور خارجی نیم موصل کے درمیان فرق لکھئے۔

25. HIV کی ساخت کا خاکہ بنائیے۔

26. ”رکازی ایندھن (Fossil fuels) کا کم استعمال تیزابی بارش (Acid rain) کو کم کرتا ہے۔“ سائنسی وجوہات لکھئے۔

27. راست برقی موتر (D.C. motor) کا خاکہ بنائیے۔

28. سونار (SONAR) کا فعل سمجھائیے۔

یا

بالا سمی تقطیع کا رکا فعل سمجھائیے۔

29. تابنا کی تخلیص میں استعمال ہونے والے آلات کا خاکہ بنائے۔

30. نیانڈر ٹھل انسان کی ساخت کے خصوصیات کی فہرست بنائیے۔

یا

آسٹرالوپیتھیکس انسان کی خصوصیات کی فہرست مرتب کیجئے۔

31. سورج میں پیدا ہونے والی انتہائی تو انائی کے تعامل کا نام لکھئے۔ سشی برقی خانہ کے دو استعمال لکھئے۔

32. حسب ذیل میں استعمال ہونے والے شیشہ کا نام لکھئے :

(a) تجربہ گاہ کے آلات کی تیاری کے لئے

(b) عدسوں کی تیاری میں

(c) کھڑکیوں کے شیشہ کے لئے

(d) جہاز میں درپچوں کے لئے

یا

حسب ذیل قسم میں استعمال ہونے والے کاغذ کا نام لکھئے :

(a) چہرہ صاف کرنے

(b) پوسٹ کارڈ بنانے

(c) مائعات سے ٹھوس اشیاء کو علحدہ کرنے

(d) بسکٹ وغیرہ (Cookies) کی پیاگنگ کے لئے

33. قلمی سلیکان حاصل کرنے کا طریقہ تعاملات کے ذریعہ سمجھائیے۔

34. غیر سیر شدہ ہیڈر و کاربن میں کاربن اور ہیڈر و جن کی نسبت 2 : 1 ہوتی ہے۔  $\text{CH}_2$  ان ہائیڈر و کاربن کے پہلے ممبر نہیں

ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پہلے ممبر کا ساختی ضابطہ لکھئے۔

$5 \times 3 = 15$


حسب ذیل سوالات کے جواب لکھئے :

- .35. ایک منزلہ راکٹ (Single stage rocket) کا خاکہ بنانے کر حصوں کے نام لکھئے۔
- .36. ساخت کے تعلق سے دھاری دار عضلات (Cardiac muscle) اور قلبی عضلات (Striated muscle) کے درمیان مشابہت اور فرق لکھئے۔

.37. (a) نیوکلیائی بھٹی میں باثرود (Enriched) کیا ہوا پرانیم استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟

(b) ناظم سلاخوں اور اعتدال ساز کا نیوکلیائی بھٹی میں فعل لکھئے۔

یا



اس تعامل کو نیوکلیائی انشقاق (Nuclear fission) کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تائیے۔

(b) تابکاری کے مضر اثرات کی فہرست بنائیے۔ ان سے بچاؤ کے طریقہ کا سمجھائیے۔

.38. ڈی این اے کی دوہریت (DNA replication) کے عمل کی وضاحت کیجئے۔

یا

ڈی این اے کی ساخت ڈبل ہیلیکس (Double helix) کی تشريح کیجئے۔

39. حسب ذیل جدول میں چار عناصر (Elements) کی الیکٹرانی ترتیب (Electronic configuration) دی گئی ہے:

عنصر	الیکٹرانی ترتیب
A	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
B	$1s^2 2s^2 2p^4$
C	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
D	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

(a) کونے عنصر کے مرکزے کی جسامت ان میں بڑی ہے؟ کیوں؟

(b) ان عناصر میں کونے عنصر کے مرکزہ کی جسامت سب سے چھوٹی ہے اور اس کا تعلق کس معیاد سے ہے؟ کیوں؟

$$3 \times 4 = 12$$

حسب ذیل سوالات کے جواب لکھئے:

40. (a) پڑول انجن کا ضرب پھیلاو (Exhaust stroke) اور ضرب اخراج (Expansion Stroke) کی وضاحت پیچھے۔

(b) ڈیزل انجن کے استوانہ میں ڈیزل کے چڑکاوے کے ضرب کا نام بتائیے۔

41. (a) تقاضی گروہ کیا ہیں؟ اتھین (Ethane) سے ایک ہیدروجن کے جوہر کے CHO - گروہ سے بننے والے مرکب کا ساختی خواص لکھئے۔

(b) میتھین (Methane) اور کلورین (Chlorine) کے آمیزہ کو بالانفسی شعاعوں آشکار ہونے پر ٹھراکلورہ میتھین (tetrachloromethane) حاصل ہونے تک کے متوازن کیمیائی مساوات لکھئے۔

یا

(a) میتھین (Methane) کی تیاری کا طریقہ مساوات کے ذریعہ بیان کیجئے۔ میتھین (Methane) آکسیجن کی موجودگی میں احتراق پانے پر حاصل ہونے والے اجزاء کے نام لکھئے۔

(b) ٹیل ناپائیدار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

.42. انسانی آنکھ کی طولی تراش کی شکل اتنا رکھ سب ذیل کی نشاندہی کیجئے۔

عدسہ (Lens) (i)

بصری آعصاب (Optic nerve) (ii)

---

---

**83-U**

**12**

**CCE RR**

**RR-XXVI-8039**